

106482- رمضان المبارک میں ایسے ملک جاناجواس کے ملک سے ابتداء میں مختلف ہو

سوال

جب میں اپنے ملک میں رمضان کے روزوں کی ابتداء کروں اور پھر دروان رمضان ایسے ملک جاؤں جہاں ہم سے ایک دن بعد روزہ رکھا گیا ہو تو کیا میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہی روزہ رکھتا رہوں یا نہیں اگر ان کے ساتھ رکھوں تو اس طرح میرے ایک روزے ہو جائیں گے؟

پسندیدہ جواب

روزوں کی ابتداء کا اعتبار اس ملک کے مطابق ہو گا جہاں وہ موجود ہے، اور رمضان کے ختم ہونے کا اعتبار اس ملک کے مطابق ہو گا جہاں وہ سفر کر کے گیا ہے، اس کے مجموعی روزے اٹھائیں بنیں تو اس کو ایک روزہ قضاۓ کرنا ہو گا کیونکہ قمری مہینہ ائمہ یوم سے کم نہیں ہوتا۔

اور اگر اس نے اس ملک میں جاں گیا ہے تیس روزے مکمل کر لیے ہیں اور وہاں کے باشندے ابھی روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی اس پر روزہ رکھنا واجب ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی عید کر سکے اور نماز عید ان کے ساتھ ادا کر سکے۔

الله تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں باذل فرماتے انتہی

الجعیف الدامۃ للجوث العلمیہ والافتاء.

الشیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز.

الشیخ عبدالرزاق عفیفی.

الشیخ عبداللہ بن غدیان.